



سوال

نقصان سے بچاؤ کا ذریعہ بننے والے صبح و شام کے اذکار

جواب

الحمد للہ

اول:

سوال میں مذکور دعائیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے کہ اہل علم نے اسے ذکر کیا ہے۔

چنانچہ ابان بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: (جو شخص تین بار یہ کہے:

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَمْشُرُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

[اللہ کے نام سے (میں صبح یا شام اسی کی پناہ میں آتا ہوں)، اس کے نام سے زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی نقصان نہیں دیتی، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے]

تو اسے صبح تک کوئی اچانک پہنچنے والی تکلیف نہیں پہنچے گی اور جو یہ کلمات صبح کے وقت کہے تو شام تک اسے اچانک پہنچنے والی تکلیف نہیں پہنچے گی) راوی کہتے ہیں کہ: ابان بن عثمان پر فلاح کا حملہ ہو گیا اور ایک آدمی جس نے ابان سے یہ حدیث سنی تھی ابان کی طرف ٹنگلی باندھ کر دیکھے جا رہا تھا تو ابان نے پوچھا: تم میری طرف کیسے دیکھ رہے ہو؟! اللہ کی قسم! میں نے عثمان پر جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا تھا، اصل بات یہ ہے کہ جس دن مجھ پر فلاح کا حملہ ہوا ہے میں غصے میں تھا اور یہ دعا پڑھنا بھول گیا۔

ابوداؤد (5088) اور ترمذی نے اس روایت کو حدیث نمبر: (3388) میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے:

(جو شخص روزانہ تین صبح اور شام کہے:

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَمْشُرُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

[اللہ کے نام سے (میں صبح یا شام اسی کی پناہ میں آتا ہوں)، اس کے نام سے زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی نقصان نہیں دیتی، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے] تو اسے کوئی

نقصان نہیں پہنچے گا)

روایت ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ حدیث "حسن اور غریب ہے" اس حدیث کو ابن قیم رحمہ اللہ نے "زاد المعاد" (2/338) میں اور البانی رحمہ اللہ نے "صحیح ابوداؤد" میں صحیح قرار دیا ہے۔

ڈاکٹر عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں:

"یہ دعائیں عظیم اذکار میں سے ہے جن کی ہر مسلمان کو صبح اور شام کے وقت پابندی کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اچانک پہنچنے والی بلاؤں مصیبتوں اور نقصانات وغیرہ سے



محفوظ رہے۔

قرطبی رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں: یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس پر ہمیں دلیل اور تجربے ہر دو طرح سے اطمینان ہے؛ کیونکہ میں نے جب سے یہ روایت سنی تھی میں پابندی سے یہ دعا پڑھا کرتا تھا، پھر جب مجھ سے پھوٹ گئی تو مجھے مدینہ میں رات کے وقت ایک بچھو نے کاٹ لیا، تو میں نے خوب سوچ و سچا کر کی تو مجھے یاد آیا کہ میں نے ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل نہیں کی تھی انتہی دیکھیں: "الفتوحات الربانیة" از: ابن علان (3/100)

یہ دعا پڑھنے کیلئے سنت یہی ہے کہ صبح و شام تین، تین بار اسے پڑھا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھنے کیلئے یہی عدد بتلایا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: **الَّذِي لَا يَضْرَعُ انْمِيَةً فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ** اس کا مطلب یہ ہے کہ: جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کی پناہ میں آتا ہے تو اسے آسمان یا زمین کسی بھی جانب سے کوئی مصیبت نہیں پہنچتی۔

اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: **وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ** اس کا مطلب یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی باتوں کو سننے والا ہے، بندوں کے افعال جلنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کا کوئی عمل چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں اللہ تعالیٰ سے اونچل نہیں ہو سکتا۔

نیز صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ کہتے ہیں: "ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا: یا رسول اللہ! مجھے کل رات ایک بچھو نے ڈنگ مار دیا ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (اگر تم شام کے وقت کہہ دیتے:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

[میں تمام مخلوقات کے شر سے اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے اسی کی پناہ چاہتا ہوں] تو تمہیں بچھو ڈنگ نہ مارتا) "مسلم: (2709)

اور اسی طرح ترمذی کی روایت میں ہے کہ: (جو شخص شام کے وقت تین بار کہے:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

[میں تمام مخلوقات کے شر سے اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے اسی کی پناہ چاہتا ہوں] تو اس رات کوئی بھی زہریلی چیز اسے نقصان نہ دے) ترمذی: (3604)

حدیث کے عربی متن میں "الْحَمْدُ" کا لفظ ہے جس کا معنی ہے: کوئی بھی زہریلی چیز: مثلاً: بچھو وغیرہ۔

امام ترمذی رحمہ اللہ نے سہیل بن ابوصالح - مذکورہ حدیث کے راوی - کی یہ روایت ذکر کر کے ذکر کیا کہ: سہیل بن ابوصالح کہتے ہیں: ہمارے تمام بچوں اور گھر والوں نے یہ دعا سیکھی ہوئی تھی، چنانچہ سب گھر والے روزانہ ہر رات کو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ایک رات ایک بچی کو بچھو نے ڈنگ مارا تو بچی کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔

یہ حدیث اس دعا کی فضیلت کیلئے دلیل ہے، چنانچہ جو شخص شام کے وقت یہ دعا پڑھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سانپ کے ڈسنے یا بچھو وغیرہ کے ڈنگ مارنے سے محفوظ رہے گا انتہی مختصراً

"فہم الأذکار" (14-3/12)

اللہ تعالیٰ کے حکم سے نقصانات اور مصیبتوں سے بچاؤ کا ذریعہ بننے والے اذکار میں عبد اللہ بن نجیب رضی اللہ عنہ کی روایت بھی شامل ہے، آپ کہتے ہیں: "ہم ایک اندھیری اور



ایک شخص بودرداء رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا: بودرداء تمہارا گھر خاکستر ہو گیا ہے!

تو بودرداء رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: "میرا گھر نہیں جلا، اللہ تعالیٰ میرے گھر کو نہیں جلانے گا؛ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سنی ہے، جو شخص اس دعا کو دن کی ابتدا میں پڑھے تو اسے شام تک کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، اور جو اسے شام کو پڑھے تو اسے صبح تک کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی:

اللهم أنت ربی، لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا باللہ العلی العظیم، أعلم أن اللہ علی کل شیء قدير، وأن اللہ قد أحاط بكل شیء علماً، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربی علی صراط مستقیم

اسے ابن السنی نے "عمل الیوم واللیلۃ": (57) میں، طبرانی نے "الدعاء": (343) میں اور بیہقی نے: "دلائل النبوة" (7/121) میں اغلب بن تیمم، حجاج بن فرافصہ، طلق بن عیب کی سند سے بیان کیا ہے۔

ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"یہ حدیث ثابت نہیں ہے؛ اس کی سند میں "اغلب" نامی راوی ہے، جس کے بارے میں:

یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں: "لیس بشیء" [اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے]

امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں: "منکر الحدیث" [وہ منکر الحدیث ہے، یعنی سخت ضعیف ہے] انتہی

"العلل المتناہیة" (2/352)

نیز حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے "تتایج الأفكار" (2/401) میں ضعیف قرار دیا ہے۔

شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"اس کی سند سخت ضعیف ہے، اس کی سند میں راوی "اغلب" کے بارے میں امام بخاری وغیرہ کہتے ہیں: "منکر الحدیث" [وہ منکر الحدیث ہے] جبکہ حجاج بن فرافصہ بھی کمزور

راوی ہے انتہی

"السلسلة الضعیفة" (6420)

واللہ اعلم